

## 1506 - جو کلمہ نہ 1740#؛ پڑھتا اس پر اسلام کا حکم نہ 1740#؛ لگا 1740#؛ ا جا سکتا

### سوال

اگر انسان پیدائشی طور پر ہی کافر ہے لیکن وہ ہے مخلص اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرتا اور اس کا یہ اعتقاد ہے کہ ہر ایک شخص حق پر ہے اور اسے اسلام کے متعلق بتاتا بھی نہیں تو وہ اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس طرح کا شخص قیامت کے دن کہاں جائے گا؟ جزاک اللہ خیرا۔

### پسندیدہ جواب

الحمد لله.

الحمد لله

اس شخص کے متعلق جس کا حال سوال میں بیان کیا گیا اس پر اسلام کا حکم نہیں لگایا جا سکتا اگرچہ وہ اچھے اخلاق کا ہی مالک کیوں نہ ہو کیونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر ایمان لایا ہے۔

اور یہ اعتقاد رکھنا کہ زمین پر جتنے بھی دین پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں اور ان کے ماننے والے حق پر ہیں تو یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ سب سے بڑا باطل اور کفر اعظم ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے :

<کہہ دیجئے کیا وہ جو جانتے اور علم رکھتے ہیں اور وہ جو جانتے اور علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟>

الزمر 9

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

> اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اور نہ ہی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کئے اور وہ جو بدکار ہیں (برابر ہیں) تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو < غافر - 58

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

> آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اور کو حمایتی اور مددگار

بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے نفع اور نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ < الرعد / 16

فرمان باری تعالیٰ ہے :

> آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں < المائدہ / 100

اللہ عزوجل کا فرمان ہے :

> اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں اور نہ ہی تاریکی اور روشنی اور نہ ہی چھاؤں اور دھوپ اور نہ ہی زندہ اور مردے برابر ہو سکتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے < فاطر / 19-22

اور رہا یہ سوال کہ آیا یہ شخص اپنی جہالت کی وجہ سے معذور ہے یا کہ نہیں؟ اور قیامت کے دن اس کا حال کیا ہو گا؟

ہمارا ایمان ہے کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہے اور اس کا جواب اس طرح کے ایک سوال نمبر (2443) کے جواب میں گذر چکا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس کی طرف رجوع کریں -

واللہ اعلم .